

Always here to help you


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question?
Contact
Philips

BG1025
BG1024
BG105



PHILIPS



ENGLISH 4

INDONESIA 10

한국어 16

BAHASA MELAYU 23

ภาษาไทย 29

TIẾNG VIỆT 35

繁體中文 41

简体中文 47

فارسی 58

العربية 64

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Philips offers you a safe and gentle way to trim your body, even in the most sensitive areas. With this new body groomer you can comfortably get a close trim to feel clean and confident, whatever the occasion.

General description (Fig. 1)

- 1 Trimming head
- 2 Locked position of the trimming head
- 3 On/off slide
- 4 Unlocked position of battery compartment cover
- 5 Shower strap slot
- 6 Shower strap
- 7 3mm trimming comb
- 8 0.5mm skin protector
- 9 Cleaning brush
- 10 AA alkaline battery

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Warning

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Caution

- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if any of its parts is damaged or broken, as this may cause injury.
- Only use this appliance on body areas below the neckline. Do not use the appliance on the head and face.
- Do not use the appliance without the 0.5mm skin protector or the 3mm trimming comb.
- We strongly advise you to trim longer hairs with the 3mm trimming comb first before you use the 0.5mm skin protector, which is specially intended for trimming shorter hairs.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Be careful with hot water when you clean the attachments.
Always check if the water is not too hot, to prevent your hands from getting burnt.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- Only run the appliance on one non-rechargeable 1.5V R6 AA battery.



- Use and store the appliance at a temperature between 15°C and 35°C.
- Do not expose the appliance to direct sunlight.
- Remove the battery from the appliance if you are not going to use it for some time.


Compliance with standards

- This appliance is waterproof and complies with the internationally approved safety regulations. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap.
- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.
- This appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely cleaned under the tap.




Preparing for use


Placing the batteries



- 1** To remove the battery compartment cover, turn it clockwise until it is in the unlocked position.



- 2** Pull the battery compartment cover off the handle.




3 Put the battery in the battery compartment.


Make sure the + and - poles of the battery point in the right direction.

Note: The appliance runs on one R6 AA 1.5-volt battery (included).

Preferably use Philips alkaline batteries. A new AA alkaline battery has an operating time of up to 90 minutes.



4 Slide the battery compartment cover back onto the handle.




5 Turn the battery compartment cover anticlockwise until it is in the locked position.

To avoid damage due to battery leakage:

- do not expose the appliance to direct sunlight.
- do not expose the appliance to temperatures higher than 35°C.
- remove the battery if you are not going to use the appliance for a month or more.
- do not leave an empty battery in the appliance.

Using the appliance



Take your time when you first start to trim sensitive areas.

You have to acquire practice with the appliance. Your skin also needs some time to adjust to the procedure.


Do not use this appliance to trim facial hair or scalp hair.

Caution: Do not use the appliance without the 0.5mm skin protector or the 3mm trimming comb.


Trimming

The appliance comes with two trimming combs that allow you to cut hair to 2 different lengths. Start with the 3mm trimming comb to acquire practice with this appliance.


Comb	Hair length after trimming
0.5mm skin protector	0.5mm/0.02 inch
3mm trimming comb	3mm/0.11 inch



- 1** Snap the trimming comb into place. Make sure that the indication on the comb is aligned with the indication on the trimming head.
 - Place the appliance at an angle of 45° onto the skin.



- 2** Push the on/off slide upwards to switch on the appliance.
When you trim dense hair, make slow and well-controlled movements.




- 3** Move the appliance against the direction of hair growth.

Note: Make sure that the flat part of the trimming comb is always fully in contact with the skin.

Note: Do not use too much pressure.

Trimming tips




- If the hairs are longer than 20mm, you can trim them to a length of 3mm first to make trimming easier.
- The appliance works best under dry conditions. Dry your skin with e.g. a towel when using on moist areas, such as underarms.
- Stretch the skin in sensitive areas such as the chest and the scrotum.

Cleaning


Clean the appliance after every use.

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.


- 1** Push the on/off slide downwards to switch off the appliance.
- 2** Remove the 3mm trimming comb or 0.5mm skin protector if it is still attached.




- 3** Use the cleaning brush supplied to clean the 3mm trimming comb or 0.5mm skin protector.



- 4** Use the cleaning brush supplied to clean the inside of the trimming head.



- 5** Rinse the 3mm trimming comb and the 0.5mm skin protector under the tap.



- 6** Rinse the inside of the trimming head under the tap.

- 7** Carefully shake of excess water and let dry.



Recycling

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Removing the disposable batteries

To remove the disposable batteries, see chapter 'Preparing for use'.

Guarantee and support

If you need information or support, please visit **www.philips.com/support** or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Cause	Solution
The appliance does not work.	The battery is empty.	Replace the battery.
The appliance makes more noise and/or vibrates more strongly than usual.	One or more parts are broken, perhaps because you dropped the appliance.	Take the appliance to your dealer or to an authorised Philips service centre for examination or repair.
	If this appliance is used professionally, it will reach the end of its life earlier	Do not use the appliance professionally.
	The trimming head is dirty.	Clean the trimming head (see chapter 'Cleaning').
Reduced trimming performance	You use the appliance in the wrong way.	Follow the instructions in chapter 'Using the appliance'.
	The trimming head is dirty.	Clean the trimming head (see chapter 'Cleaning').
	The battery is running low.	Replace the battery (see chapter 'Recycling').
	You have not attached the trimming comb properly.	Remove the trimming comb and reattach it (see chapter 'Using the appliance').
	Your skin may be moist.	Dry your skin with e.g a towel before use.

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di **www.philips.com/welcome**. Philips menawarkan cara yang aman dan lembut merawat rambut Anda, bahkan di area paling sensitif sekali pun. Dengan perawat tubuh baru ini Anda akan mendapat hasil yang licin sehingga Anda merasa bersih dan percaya diri di segala kesempatan.

Gambaran umum (Gbr. 1)

- 1 Kepala pemangkas
- 2 Posisi kepala pemangkas terkunci
- 3 Geseran on/off
- 4 Posisi tutup wadah baterai terbuka
- 5 Slot pengikat shower
- 6 Pengikat shower
- 7 Sisir pemangkas 3mm
- 8 Pelindung kulit 0,5mm
- 9 Sikat pembersih
- 10 Baterai alkaline AA

Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini secara saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Peringatan

- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau pengarahan mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggungjawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.

Perhatian

- Selalu cek alat terlebih dulu sebelum Anda menggunakannya. Jangan gunakan alat atau komponennya jika rusak, karena dapat menyebabkan cedera.
- Hanya gunakan alat ini pada bagian tubuh di bawah garis leher. Jangan gunakan alat ini pada kepala dan wajah.
- Jangan gunakan alat ini tanpa pelindung kulit 0,5 mm atau sisir pemangkas 3 mm.
- Kami sangat menyarankan Anda untuk memangkas rambut yang lebih panjang dengan sisir pemangkas 3mm terlebih dahulu sebelum menggunakan sisir pelindung kulit 0,5 mm, yang khusus ditujukan untuk memangkas rambut yang lebih pendek.
- Jika alat mengalami perubahan suhu, tekanan atau kelembaban yang sangat tinggi, biarkan alat beraklimatisasi selama 30 menit sebelum Anda menggunakannya.
- Untuk alasan higienis, alat sebaiknya hanya digunakan oleh satu orang saja.
- Hati-hati dengan air panas saat membersihkan alat. Selalu periksa apakah air tidak terlalu panas agar tangan Anda tidak melepuh.




- Jangan sekali-kali menggunakan udara bertekanan, sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif seperti bensin atau aseton untuk membersihkan alat.
- Gunakan alat hanya dengan satu baterai non-isi ulang 1,5V R6 AA.
- Gunakan dan simpan alat pada suhu antara 15°C dan 35°C.
- Jangan biarkan alat terkena sinar matahari langsung.
- Keluarkan baterai dari alat jika Anda tidak akan menggunakannya untuk waktu yang cukup lama.

Sesuai standar


- Alat ini tahan air dan memenuhi peraturan keamanan yang disetujui secara internasional. Cocok untuk digunakan saat mandi atau di bawah pancuran dan untuk dibersihkan di bawah air keran.
- Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.
- Alat ini telah mematuhi peraturan keselamatan IEC yang disetujui secara internasional dan aman dibersihkan di bawah keran.

Menyiapkan penggunaan


Memasang baterai



- 1 Untuk melepas tutup wadah baterai, putar searah jarum jam hingga berada di posisi terbuka.




- 2 Tarik penutup kompartemen baterai dari gagangnya.




- 3** Masukkan baterai ke dalam kompartemen baterai.
Pastikan kutub + dan - baterai menunjuk ke arah yang benar.

Catatan: Alat beroperasi menggunakan satu baterai R6 AA 1,5-volt (disertakan). Disarankan untuk menggunakan baterai alkaline Philips. Baterai alkaline AA baru memiliki waktu pengoperasian hingga 2 jam.



- 4** Geser tutup kompartemen baterai kembali ke gagangnya.




- 5** Putar wadah tutup wadah baterai berlawanan arah jarum jam hingga berada di posisi terkunci.

Untuk menghindari kerusakan karena baterai bocor:

- jangan biarkan alat terkena sinar matahari langsung.
- jangan sampai alat berada pada suhu di atas 35 °C.
- keluarkan baterai jika Anda tidak akan menggunakan alat selama satu bulan atau lebih.
- jangan meninggalkan baterai kosong di dalam alat.

Menggunakan alat




Luangkan waktu ketika Anda pertama kali mulai memangkas bagian yang sensitif. Anda harus membiasakan diri dengan alat ini. Kulit Anda juga perlu waktu untuk penyesuaian dengan prosedur ini.
Jangan gunakan alat untuk memangkas rambut wajah atau rambut kepala.

Perhatian: Jangan gunakan alat ini tanpa pelindung kulit 0,5 mm atau sisir pemangkas 3 mm.


Memangkas

Alat ini dilengkapi dua sisir pemangkas sehingga Anda dapat memotong rambut dengan 2 panjang berbeda. Mulailah dengan sisir pemangkas 3 mm agar terbiasa dengan alat ini.


Sisir	Panjang bulu setelah pemangkasan
Pelindung kulit 0,5mm	0,5mm/0,02 inci
Sisir pemangkas 3mm	3 mm/0,11 inci



- 1** Pasang sisir pemangkas pada tempatnya. Pastikan indikator pada sisir sejajar dengan indikator pada kepala pemangkas.
 - Letakkan alat dengan sudut 45° pada kulit.



- 2** Tekan tombol geser on/off ke atas untuk menghidupkan alat cukur. Ketika memangkas rambut tebal, gunakan gerakan perlahan dan terkendali.




- 3** Gerakkan alat dalam arah berlawanan dengan pertumbuhan bulu.

Catatan: Pastikan bahwa bagian rata pada sisir pemangkas selalu bersentuhan penuh dengan kulit.

Catatan: Jangan menekan alat terlalu keras.

Tips memangkas




- Apabila rambut lebih panjang dari 20mm, pangkaslah hingga sepanjang 3mm agar memangkas lebih mudah.
- Alat ini bekerja paling baik pada kondisi kering. Keringkan kulit Anda misalnya dengan handuk saat menggunakannya pada area yang lembap, seperti ketiak.
- Rentangkan kulit di area sensitif seperti dada dan skrotum (buah zakar).


Membersihkan

Bersihkan alat setiap kali selesai digunakan.


Jangan sekali-kali menggunakan udara bertekanan, sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif seperti bensin atau aseton untuk membersihkan alat.




- 1 Dorong slider on/off ke belakang untuk mematikan alat.
- 2 Lepaskan sisir pemangkas 3mm atau pelindung kulit 0,5mm apabila masih terpasang.



- 3 Gunakan sikat pembersih yang disertakan untuk membersihkan sisir pemangkas 3mm atau pelindung kulit 0,5mm.



- 4 Gunakan sikat pembersih yang disertakan untuk membersihkan bagian dalam kepala pemangkas.



- 5 Bilas sisir pemangkas 3mm dan pelindung kulit 0,5mm menggunakan air mengalir.



- 6 Bilas bagian dalam kepala pemangkas menggunakan air mengalir.
- 7 Goyang perlahan untuk membuang sisa air dan biarkan kering.

Mendaur ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan ini, berarti Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Membuang baterai lama

Untuk membuang baterai lama, lihat bab 'Persiapan penggunaan'.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi **www.philips.com/support** atau bacalah pamflet garansi internasional.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum masalah-masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah ini, kunjungi **www.philips.com/support** untuk melihat daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Penyebab	Solusi
Alat tidak mau bekerja.	Baterai habis.	Ganti baterai.
Alat akan berbunyi dan dan/atau bergetar lebih kuat daripada biasanya.	Satu atau beberapa komponen telah pecah, mungkin karena Anda pernah menjatuhkan alat.	Bawalah alat ke dealer Anda atau pusat layanan Philips resmi untuk diperiksa atau diperbaiki.
	Jika alat ini digunakan untuk keperluan profesional, masa pakainya akan lebih cepat habis	Jangan menggunakan alat untuk keperluan profesional.
Performa pemangkas berkurang	Kepala pemangkas kotor.	Bersihkan kepala pemangkas (lihat bab 'Membersihkan').
	Anda menggunakan alat dengan cara yang salah.	Ikuti petunjuk dalam bab 'Menggunakan alat'.
	Kepala pemangkas kotor.	Bersihkan kepala pemangkas (lihat bab 'Membersihkan').
	Baterai tinggal sedikit.	Ganti baterai (lihat bab 'Mendaur ulang').
	Anda belum memasang sisir pemangkas dengan benar.	Lepaskan sisir pemangkas dan pasang kembali (lihat bab 'Menggunakan alat').
	Kulit Anda mungkin lembab.	Keringkan kulit menggunakan handuk sebelum menggunakan.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받을 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하여 주십시오.

필립스는 가장 민감한 신체 부위도 안전하고 부드럽게 트리밍할 수 있는 방법을 제공해 드립니다. 이 새로운 바디 그루머는 편안하게 밀착하므로 언제든지 깨끗하고 자신감 넘치도록 트리밍할 수 있습니다.

제품정보 (그림 1)

- 1 트리머 헤드
- 2 트리머 헤드 잠금 위치
- 3 전원 스위치
- 4 배터리함 덮개 잠금 해제 위치
- 5 샤워 스트랩 슬롯
- 6 샤워 스트랩
- 7 3mm 트리밍 빗
- 8 0.5mm 스킨 프로텍터
- 9 청소용 브러시
- 10 AA 알카라인 배터리

중요 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

경고

- 이 제품은 어린이를 비롯하여 신체적, 감각적, 정신적 능력이 약하거나 경험과 지식이 부족한 사람이 사용해서는 안되며 제품 사용과 관련하여 안전에 책임이 있는 보호자의 지도 및 감독을 받아야 합니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.

주의

- 제품을 사용하기 전에 반드시 확인하십시오. 제품의 일부 중 어느 것 하나라도 손상되었거나 고장 난 경우 상처를 입을 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 목 아래 신체 부분에만 이 제품을 사용하십시오. 머리 및 얼굴에 사용하지 마십시오.
- 0.5mm 스킨 프로텍터 또는 3mm 트리밍 빗 없이 제품을 사용하지 마십시오.
- 짧은 체모를 트리밍하는데 사용하는 0.5mm 스킨 프로텍터를 사용하기 전에 3mm 트리밍 빗을 사용하여 더 긴 체모를 트리밍하는 것이 좋습니다.
- 온도, 압력 및 습도 차가 큰 곳에서는 제품을 30분 정도 두었다가 사용하십시오.
- 위생상 좋지 않으므로 이 제품을 타인과 함께 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 물을 사용하여 액세서리를 청소하는 경우 주의하십시오. 화상을 입지 않도록 물이 너무 뜨겁지 않은지 항상 확인하십시오.
- 제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.



- 비충전식 R6 AA 1.5V 배터리로만 제품을 작동하십시오.
- 제품은 15° C - 35° C 사이의 온도에서 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 제품을 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 오랫동안 사용하지 않을 경우에는 제품에서 배터리를 빼 두십시오.


기준 준수

- 이 제품은 방수 기능이 있으며 국제적으로 공인 받은 안전 기준을 따르고 있습니다. 목욕이나 샤워 중에도 사용할 수 있으며, 수돗물로 세척할 수 있습니다.
- 이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.
- 본 제품은 국제적으로 공인 받은 IEC 안전 규정을 따르고 있으며, 수돗물로 간편하고 위생적인 물 세척이 가능합니다.




사용 준비


배터리 장착



- 1 배터리함 덮개를 분리하려면 배터리함 덮개가 잠금 해제 위치에 도달할 때까지 시계 방향으로 돌립니다.




- 2 손잡이에서 배터리함 덮개를 당겨 빼냅니다.




- 3 건전지함에 건전지를 넣으십시오.
배터리의 극성(+/-)에 맞게 끼우십시오.

참고: 이 제품은 1개의 R6 AA 1.5V 배터리(포함됨)로 작동됩니다. 필립스 알카라인 배터리를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 새 AA 알카라인 배터리를 넣으면 최대 90분까지 제품이 작동합니다.



4 배터리함 덮개를 다시 손잡이로 밀어 넣습니다.




5 배터리함 덮개가 잠금 위치에 도달할 때까지 시계 반대 방향으로 돌립니다.

배터리 누액에 의한 손상 방지:

- 제품을 직사광선에 노출시키지 마십시오.
- 제품을 35° C 이상의 고온에 노출시키지 마십시오.
- 한 달 이상 제품을 사용하지 않을 경우에는 배터리를 꺼낸 후 보관하십시오.
- 수명이 다 된 배터리를 제품에 넣은 상태로 두지 마십시오.

제품 사용



민감한 부위를 처음 다듬을 때는 서두르지 말고, 천천히 제품 사용 방법을 익혀야 합니다. 피부도 면도에 적응하는 시간이 필요합니다.


이 제품으로 얼굴의 수염 또는 모발을 트리밍하지 마십시오.

주의: 0.5mm 스킨 프로텍터 또는 3mm 트리밍 빗 없이 제품을 사용하지 마십시오.


트리머 사용법

제품에는 체모를 2가지 길이로 자를 수 있는 트리밍 빗 두 종류가 포함되어 있습니다. 제품 사용 방법을 익히려면 3mm 트리밍 빗을 먼저 사용하십시오.


빗	트리밍 후 체모 길이
0.5mm 스킨 프로텍터	0.5mm / 0.02인치
3mm 트리밍 빗	3mm/0.11인치



- 1** 트리밍 빗을 제자리에 부착합니다. 빗의 표시와 트리머 헤드의 표시가 일치하는지 확인하십시오.
- 제품을 피부에 45°로 세웁니다.



- 2** 제품의 전원을 켜려면 전원 슬라이드를 앞으로 미십시오. 많은 양의 체모를 트리밍할 경우 천천히 적절하게 조절하며 움직이십시오.




- 3** 체모가 자라는 반대 방향으로 제모기를 움직이십시오.

참고: 트리밍 빗의 평평한 면을 피부에 완전히 밀착하십시오.

참고: 트리밍 도중에 무리한 힘을 가하지 마십시오.

트리밍 팁




- 20mm보다 긴 체모의 경우, 먼저 3mm 길이까지 트리밍하면 제모가 보다 쉬워집니다.
- 이 제품은 건조한 상태에서 최상의 성능을 발휘합니다. 거드랑이 같이 물기가 있는 부위에 사용할 때는 수건 등으로 피부를 건조시키십시오.
- 가슴이나 생식기와 같이 예민한 부위는 피부를 팽팽하게 당기십시오.

세척


매번 사용 후에는 제품을 청소하십시오.

제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.


- 1 제품의 전원을 끄려면 전원 스위치를 아래로 미십시오.
- 2 3mm 트리밍 빗 또는 0.5mm 스킨 프로텍터가 아직 부착되어 있으면 분리하십시오.




- 3 제공된 청소용 브러쉬를 사용해 3mm 트리밍 빗 또는 0.5mm 스킨 프로텍터를 청소합니다.



- 4 제공된 청소용 브러쉬로 트리머 헤드의 내부를 청소합니다.



- 5 3mm 트리밍 빗 또는 0.5mm 스킨 프로텍터를 수돗물로 헹굽니다.



- 6 트리머 헤드의 내부를 수돗물로 헹굽니다.
- 7 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 말리십시오.



재활용

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.

일회용 배터리 제거

일회용 배터리를 제거하려면 “사용 전 준비”란을 참조하십시오.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우에는 필립스 웹사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

문제 해결

이 란은 본 제품을 사용하면서 가장 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보로도 문제를 해결할 수 없는 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
제품이 작동하지 않습니다.	배터리가 방전되었습니다.	배터리를 교체하십시오.
제품에서 평소보다 많은 소음이 나거나 진동이 심합니다.	하나 이상의 부품이 손상되었습니다. 제품을 바닥에 떨어트린 것이 원인일 수 있습니다.	제품의 검사나 수리가 필요한 경우에는 필립스 대리점이나 필립스 서비스 센터에 문의하십시오.
	상업적인 용도로 사용할 경우, 제품 수명 기간이 짧아집니다.	제품을 상업적인 용도로 사용하지 마십시오.
	트리머 헤드가 지저분합니다.	트리머 헤드를 청소하십시오(‘청소’란 참조).
트리밍 효과가 떨어집니다.	제품을 잘못된 방법으로 사용하고 있습니다.	‘제품 사용’란의 지침을 따르십시오.
	트리머 헤드가 지저분합니다.	트리머 헤드를 청소하십시오(‘청소’란 참조).
	배터리 전력이 부족합니다.	배터리를 교체하십시오(‘재활용’란 참조).
	트리밍 빔을 제대로 끼우지 않았습니다.	트리밍 빔을 분리한 다음 다시 끼우십시오(‘제품 사용’란 참조).
	피부에 물기가 있을 수 있습니다.	사용하기 전에 수건 등으로 피부를 건조시키십시오.

제조번호 부여기준 : 본 제품의 제조번호는 4자리,5자리,6자리,9자리로 표기될 수 있습니다. **(1) 4자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 뒤의 두 자리는 생산된 주를 의미합니다. 예) 0632 → 2006년 32번째 주에 생산 **(2) 5자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 마지막 자리는 생산된 요일을 의미합니다. 예) 06243 → 2006년 24번째 주의 수요일 생산 **(3) 6자리일 경우** : 앞의 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 월을, 마지막 두 자리는 일을 의미합니다. 예) 061125 → 2006년 11월 25일 생산 **(4) 9자리일 경우** : 앞의 한 자리는 제조국을, 다음 두 자리는 연도를, 다음 두 자리는 생산된 주를, 다음 한 자리는 공장의 생산라인을, 마지막 3자리는 그 주에 생산된 제품의 일련번호를 의미합니다. 예) 507402001 → 네덜란드에서 2007년 40번째 주에 2번 생산라인에서 첫 번째 생산 **(5) 기타제조번호**에 대한 문의사항은 (02)709-1200 으로 연락바랍니다.

Pengenalan

Tahniah atas pembelian anda, dan selamat datang ke Philips!
Untuk mendapat manfaat sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk anda di **www.philips.com/welcome**.
Philips menawarkan cara yang selamat dan lembut untuk merapikan badan anda, walaupun pada bahagian yang paling sensitif. Dengan perapi badan yang baru ini, anda boleh membuat perapian dengan selesa untuk terasa bersih dan yakin pada setiap masa.

Perihalan umum (Gamb. 1)

- 1 Kepala perapian
- 2 Kedudukan terkunci kepala perapi
- 3 Gelangsar hidup/mati
- 4 Kedudukan terbuka kunci tudung ruang bateri
- 5 Slot tali pancuran
- 6 Tali pancuran
- 7 Sikat perapi 3mm
- 8 Pelindung kulit 0.5mm
- 9 Berus pembersih
- 10 Bateri alkali AA

Penting


Baca manual pengguna ini dengan teliti sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan ia untuk rujukan masa depan.

Amaran

- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau arahan berkenaan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas ini.

Awas

- Periksa perkakas setiap kali anda hendak menggunakannya. Jangan gunakan perkakas jika mana-mana bahagiannya rosak, kerana ini boleh menyebabkan kecederaan.
- Hanya gunakan perkakas ini pada kawasan badan di bawah garis leher. Jangan gunakan perkakas ini di kepala dan muka.
- Jangan gunakan perkakas tanpa pelindung kulit 0.5mm atau sikat perapian 3mm.
- Kami amat menyarankan agar anda merapikan rambut yang lebih panjang menggunakan sikat perapian 3mm sebelum anda menggunakan pelindung kulit 0.5mm, khusus untuk merapikan rambut yang lebih pendek.
- Jika perkakas didedahkan kepada perubahan besar dalam suhu, tekanan atau kelembapan, biarkan ia menyesuaikan iklim selama 30 minit sebelum anda menggunakannya.
- Atas sebab-sebab kebersihan, perkakas ini hendaklah hanya digunakan oleh seorang sahaja.





- Berhati-hati apabila menggunakan air panas untuk membersihkan perkakas. Sentiasa periksa jika air tidak terlalu panas, untuk mengelakkan tangan anda daripada melecur.
- Jangan sekali-kali gunakan udara termampat, pad penyental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti alkohol atau aseton untuk membersihkan perkakas.
- Jalankan perkakas menggunakan hanya satu bateri tidak boleh cas semula AA R6 1.5V.
- Guna dan simpan perkakas pada suhu antara 15°C dan 35°C.
- Jangan dedahkan perkakas kepada cahaya matahari langsung.
- Keluarkan bateri daripada perkakas ini jika anda tidak akan menggunakannya dalam tempoh yang panjang.

Pematuhan standard

- Perkakas ini kalis air dan mematuhi peraturan keselamatan yang diluluskan antarabangsa. Perkakas ini sesuai digunakan di dalam mandian atau di bawah pancuran dan boleh dibersihkan di bawah paip.
- Perkakas Philips mematuhi semua piawaian dan peraturan berkaitan dengan pendedahan kepada medan elektromagnet.
- Perkakas ini mematuhi peraturan keselamatan IEC yang diluluskan antarabangsa dan boleh dibersihkan di bawah paip dengan selamat.


Bersedia untuk menggunakan

Meletakkan bateri



1 Untuk menanggalkan tudung ruang bateri, putarkannya mengikut arah jam sehingga berada dalam kedudukan terbuka kunci.


2 Tarik tudung ruang bateri daripada pemegang.




3 Letakkan bateri ke dalam ruang bateri.

Pastikan pola + dan - bateri menghalu ke arah yang betul.

Nota: Perkakas ini menggunakan satu bateri R6 AA 1.5-volt (disertakan). Sebaik-baiknya gunakan bateri alkali Philips. Bateri alkali AA yang baru mempunyai masa pengoperasian sehingga 90 minit.



4 Luncurkan tudung ruang bateri kembali pada pemegang.




5 Putarkan tudung ruang bateri melawan arah jam sehingga berada dalam kedudukan terkunci.

Untuk mengelak kerosakan yang berpunca daripada kebocoran bateri:

- jangan dedahkan perkakas kepada cahaya matahari langsung.
- jangan dedahkan perkakas pada suhu yang melebihi 35°C.
- keluarkan bateri jika anda tidak akan menggunakan perkakas selama sebulan atau lebih.
- jangan biarkan bateri kosong di dalam perkakas.

Menggunakan perkakas




Jangan mencukur dengan cepat pada kali pertama anda mencukur kawasan yang sensitif. Anda memerlukan latihan dalam menggunakan perkakas ini. Kulit anda juga memerlukan masa untuk disesuaikan dengan prosedur ini. Jangan gunakan perkakas ini untuk merapikan bulu muka atau rambut.

Awas: Jangan gunakan perkakas tanpa pelindung kulit 0.5mm atau sikat perapian 3mm.


Merapi

Perkakas disertakan dengan dua sikat perapi yang membolehkan anda memotong rambut kepada 2 kepanjangan berbeza. Mulakan dengan sikat perapi 3mm untuk berlatih menggunakan perkakas ini.


Sikat	Panjang bulu selepas perapan
Pelindung kulit 0.5mm	0.5mm/0.02 inci
Sikat perapi 3mm	3mm/0.11 inci



- 1** Ketapkan sikat perapi di tempatnya. Pastikan penunjuk pada sikat dijaarkan dengan penunjuk pada kepala perapi.
- Letakkan perkakas pada sudut 45° di atas kulit.




- 2** Tolak gelangsar hidup/mati ke atas untuk menghidupkan perkakas. Apabila anda merapi rambut yang tebal, lakukan pergerakan yang perlahan dan terkawal.



- 3** Gerakkan perkakas ke arah lawan pertumbuhan rambut.
- Nota: Pastikan bahagian rata pada sikat perapi sentiasa bersentuhan sepenuhnya dengan kulit.*
- Nota: Jangan gunakan terlalu banyak tekanan.*

Petua perapan




- Jika rambut lebih panjang daripada 20mm, anda boleh merapkannya dahulu kepada kepanjangan 3mm untuk perapan yang mudah.
- Perkakas paling sesuai digunakan dalam keadaan kering. Keringkan kulit anda dengan tuala apabila anda menggunakannya pada kawasan lembap, seperti ketiak.
- Regangkan kulit di bahagian sensitif seperti dada dan skrotum.


Pembersihan

Bersihkan perkakas setiap kali selepas digunakan.


Jangan sekali-kali gunakan udara termampat, pad penyental, agen pembersih yang melelas atau cecair yang agresif seperti alkohol atau aseton untuk membersihkan perkakas.




- 1 Luncurkan gelangsar hidup/mati ke bawah untuk mematikan perkakas.
- 2 Keluarkan sikat perapi 3mm atau pelindung kulit 0.5mm jika masih terpasang.



- 3 Gunakan berus pembersih untuk membersihkan sikat perapi 3mm atau pelindung kulit 0.5mm.



- 4 Gunakan berus pembersih yang dibekalkan untuk membersihkan bahagian dalam kepala perapi.



- 5 Bilas sikat perapi 3mm dan pelindung kulit 0.5mm di bawah pili air.



- 6 Bilas bahagian dalam kepala perapi di bawah pili air.
- 7 Dengan berhati-hati, kibas lebih air dan biarkan mengering.

Kitar semula

Jangan buang perkakas dengan sampah rumah yang biasa pada akhir hayatnya, sebaliknya serahkannya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan berbuat begini, anda membantu memelihara alam sekitar.

Mengeluarkan bateri pakai buang

Untuk mengeluarkan bateri pakai buang, lihat bab 'Bersedia untuk menggunakan'.

Jaminan dan sokongan

Jika anda perlukan maklumat atau sokongan, sila lawati **www.philips.com/support** atau baca risalah jaminan sedunia.

Penyelesai Masalah

Bab ini meringkaskan masalah paling lazim yang mungkin anda hadapi dengan perkakas ini. Jika anda tidak dapat menyelesaikan masalah dengan maklumat di bawah, lawati **www.philips.com/support** untuk mendapatkan senarai soalan lazim atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan di negara anda.

Masalah	Sebab	Penyelesaian
Perkakas tidak berfungsi.	Bateri kosong.	Gantikan bateri.
Perkakas menghasilkan lebih banyak bunyi dan/atau bergetar dengan lebih kuat dari biasa.	Satu atau lebih bahagian rosak, mungkin kerana anda telah menjatuhkan perkakas.	Bawa perkakas kepada pembekal atau kepada pusat servis Philips yang disahkan untuk pemeriksaan atau pembaikan.
	Jika perkakas ini digunakan secara profesional, ia akan mencapai penghujung hayatnya dengan lebih awal	Jangan gunakan perkakas secara profesional.
Prestasi perapian berkurangan	Kepala perapi kotor.	Bersihkan kepala perapi (lihat bab 'Pembersihan').
	Anda menggunakan perkakas dengan cara yang salah.	Ikut arahan dalam bab 'Menggunakan perkakas'.
	Kepala perapi kotor.	Bersihkan kepala perapi (lihat bab 'Pembersihan').
	Bateri telah lemah.	Gantikan bateri (lihat bab 'Kitar semula').
	Anda masih belum memasang sikat perapian dengan betul.	Tanggalkan sikat perapi dan pasangkannya semula (lihat bab 'Menggunakan perkakas').
	Kulit anda mungkin lembap.	Keringkan kulit anda dengan tuala sebelum digunakan.

ข้อมูลเบื้องต้น

ขอแสดงความยินดีที่คุณสั่งซื้อและยินดีต้อนรับสู่ผลิตภัณฑ์ของ Philips! เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่ Philips มอบให้ โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณที่ www.philips.com/welcome

Philips ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของคุณได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน แม้ในบริเวณที่อบบางที่สุด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและทนทานของคุณ คุณจะสามารถสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและทนทานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจในทุกโอกาส

ส่วนประกอบ (รูปที่ 1)

- 1 หัวเล็ม
- 2 ตำแหน่งล็อกของหัวเล็ม
- 3 สวิตช์เปิด/ปิด แบบเลื่อน
- 4 ตำแหน่งปลดล็อกของฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่
- 5 ช่องเสียบ Shower Strap
- 6 Shower strap
- 7 หวีสำหรับเล็มขนาด 3 มม.
- 8 ระบบป้องกันผิวหนังขนาด 0.5 มม.
- 9 แปรงทำความสะอาด
- 10 แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA

ข้อสำคัญ

ควรอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในครั้งต่อไป

คำเตือน

- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ ประสาทสัมผัสไม่สมบูรณ์หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ นำเครื่องนี้ไปใช้งาน เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับการแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย
- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กนำเครื่องนี้ไปเล่น

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง โปรดอย่าใช้เครื่องหากเครื่องชำรุดเสียหาย เนื่องจากอาจทำให้บาดเจ็บได้
- ให้ใช้เครื่องนี้ในบริเวณต่ำกว่าแนวลำคอเท่านั้น ห้ามใช้งานเครื่องบนศีรษะและใบหน้า
- ห้ามใช้งานเครื่องที่ไม่มีระบบป้องกันผิวหนัง 0.5 มม. หรือหวีสำหรับเล็มขนาด 3 มม.
- เราขอแนะนำให้คุณเล็มเส้นขนที่ยาวด้วยหวีสำหรับเล็มขนาด 3 มม. ก่อนที่จะใช้ระบบป้องกันผิวหนัง 0.5 มม. ซึ่งได้รับออกแบบมาสำหรับการเล็มขนสั้น
- หากเครื่องต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ความดัน หรือความชื้นครั้งใหญ่ ควรปล่อยให้เครื่องชินกับสภาพอากาศดังกล่าวก่อนเป็นเวลานานอย่างน้อย 30 นาทีจึงจะใช้เครื่องได้
- เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรใช้อุปกรณ์เพียงคนเดียวเท่านั้น
- ไม่ควรใช้น้ำที่ร้อนเกินไปในทำความสะอาดอุปกรณ์เชื่อมต่อ ให้ตรวจสอบเสมอว่าใช้น้ำที่ไม่ร้อนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้มีเชื้อฟอง
- ห้ามใช้ปากกัดกัด แผ่นใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมัน หรืออะซิโตน ทำความสะอาดเครื่องบนชิ้นงาน
- ใช้แบตเตอรี่ขนาด AA R6 1.5V หนึ่งก้อนเท่านั้น
- ใช้และจัดเก็บอุปกรณ์นี้ไว้ที่อุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 35°C
- ไม่ควรวางเครื่องในบริเวณที่ได้รับแสงแดดโดยตรง
- ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง หากคุณไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

ความปลอดภัยกับมาตรฐาน

- เครื่องนี้กันน้ำได้ และได้มาตรฐานตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยที่ได้รับการรับรองในระดับสากล เครื่องเหมาะสำหรับใช้งานในอ่างอาบน้ำ หรือฝักบัว และสำหรับการทำความสะอาดได้ก็กอน้ำโดยเปิดน้ำไหลผ่านได้
- ผลิตภัณฑ์ของ Philips นี้เป็นไปตามมาตรฐานและกฎข้อบังคับด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีทุกประการ

- เครื่องนี้ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดความปลอดภัย IEC ที่ได้รับการรับรองในระดับสากล และสามารถล้างทำความสะอาดได้ก็กอน้ำได้อย่างปลอดภัย

การเตรียมตัวก่อนใช้งาน

การใส่แบตเตอรี่


- 1 ในการถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะอยู่ในตำแหน่งปลดล็อก

- 2 ดึงฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ออกจากตัวจับ


- 3 ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องใส่แบตเตอรี่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขั้ว + และ - ของแบตเตอรี่อยู่ในทิศทางที่ถูกต้อง

หมายเหตุ: เครื่องจะทำงานกับแบตเตอรี่ขนาด R6 AA 1.5 โวลต์หนึ่งก้อน (ให้มาด้วย) แนะนำให้ใช้กับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ของ Philips ซึ่งแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA ใหม่สามารถใช้งานได้เป็นเวลาถึง 90 นาที



4 เลื่อนฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปบนด้ามจับ




5 หมุนฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ในที่ศพนวนเข้มนาฬิกาจนกว่าจะอยู่ในตำแหน่งล็อก

หลีกเลี่ยงปัญหาการรั่วซึมของแบตเตอรี่ดังต่อไปนี้:

- ให้งานเครื่องห่างจากการโดนแสงแดดโดยตรง
- ไม่ควรวางเครื่องในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 35°C
- ถอดแบตเตอรี่ออก หากคุณ ไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นเวลานานหรือมากกว่า
- ไม่ควรใส่แบตเตอรี่ที่หมดแล้วทั้งไว้ในเครื่อง

การใช้งาน



คุณสามารถใช้เวลาได้นานเท่าที่ต้องการเมื่อเริ่มใช้ ในบริเวณที่อบอุ่นบางครั้งแรก คุณต้องฝึกฝนการใช้เครื่อง นอกจากนี้ ศีรษะของคุณยังต้องการเวลาเพื่อปรับให้เหมาะกับวิธีใช้งาน

ห้ามใช้เครื่องมือนี้สัมผัสบนใบหน้าหรือเส้นผม

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้งานเครื่องมือที่ไม่มีระบบป้องกันศีรษะ 0.5 มม. หรือหัวสำหรับเส้นขนาด 3 มม.

การกันจอน

เครื่องมือมาพร้อมหัวสำหรับเส้นสองอัน ซึ่งจะช่วยให้คุณเล็มขนได้ในความยาวสองระดับ เริ่มจากใช้หัวสำหรับเส้นขนาด 3 มม. เพื่อฝึกใช้งานเครื่องมือ

หัว


ความยาวของขนหลังการเล็ม

ระบบป้องกันศีรษะหนึ่งขนาด 0.5 มม.

0.5 มม/ 0.02 นิ้ว


หัวสำหรับเส้นขนาด 3 มม.

3 มม/0.11 นิ้ว




1 ประกอบหัวสำหรับเส้นให้เข้าที่ ให้แน่ใจว่าเครื่องหมายที่อยู่บนหัวตรงกับเครื่องหมายที่อยู่บนหัวเล็ม

- วางเครื่องบนผิวโดยให้ทำมุม 45 °กับผิว



2 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดไปด้านหลังเพื่อเปิดใช้งาน

เมื่อคุณต้องเล็มขนที่มีความหนา ให้แน่ใจว่าคุณควบคุมเครื่องให้เคลื่อนไปอย่างช้าๆ ด้วยความระมัดระวัง




3 เลื่อนเครื่องไปในทิศทางตรงกันข้ามกับแนวเส้นขน

หมายเหตุ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนที่เรียบของหัวสำหรับเล็มนั้นสัมผัสกับผิวหนังอย่างเต็มที่อยู่เสมอ

หมายเหตุ: ห้ามออกแรงกดมากเกินไป

เคล็ดลับในการเล็มขน



- หากขนมีความยาวมากกว่า 20 มม. คุณสามารถเล็มให้มีความยาวเหลือ 3 มม. ก่อน เพื่อให้คุณเล็มต่อได้ง่ายขึ้น
- เครื่องจะทำงานได้ดีที่สุดในสภาพแห้ง เช็ดผิวของคุณให้แห้งด้วยผ้าขนหนู เมื่อใช้งานบนพื้นที่ชื้น เช่น บริเวณใต้แขน
- ดึงผิวบริเวณที่บอบบางให้ตึง เช่น หน้าอกและงูย่น

การทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องหลังใช้งานทุกครั้ง

ห้ามใช้อากาศอัด แผ่นใยขัด สารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีฤทธิ์รุนแรง เช่น น้ำมัน หรืออะซิโตน ทำความสะอาดเครื่องเป็นอันขาด

1 เลื่อนสวิตช์เปิด/ปิดลงด้านล่างเพื่อปิดเครื่อง

2 ถอดหัวสำหรับเล็มขนาด 3 มม. หรือระบบป้องกันผิวหนังขนาด 0.5 มม. หากยังประกอบอยู่





3 ใช้แปรงทำความสะอาดที่นำมาเพื่อทำความสะอาดหัวสำหรับเล็มขนาด 3 มม. หรือระบบป้องกันผิวหนังขนาด 0.5 มม.

4 ใช้แปรงทำความสะอาดที่นำมาเพื่อทำความสะอาดด้านในของหัวเล็ม

5 ล้างทำความสะอาดหัวสำหรับเล็มขนาด 3 มม. และระบบป้องกันผิวหนังขนาด 0.5 มม. ด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก

6 ล้างด้านในของหัวเล็มด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อก

7 ค่อยๆ สบับน้ำที่ค้างอยู่ออกและปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง



การรีไซเคิล		
	ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับนำกลับไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี	
	การถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง	
	ในการถอดแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง ให้ดูจากบท 'การเตรียมเพื่อใช้งาน'	
การรับประกันและสนับสนุน		
	หากคุณต้องการข้อมูลหรือการสนับสนุน โปรดเข้าชมเว็บไซต์ www.philips.com/support หรืออ่านข้อมูลจากเอกสารแผ่นพับที่แนบเฉพาะเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก	
การแก้ปัญหา		
	บทนี้ได้รวบรวมปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องซึ่งคุณอาจพบได้ หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหตามข้อมูลด้านล่าง โปรดดูรายการคำถามที่พบบ่อยที่ www.philips.com/support หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ	
ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่องไม่ทำงาน	แบตเตอรี่หมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่
เครื่องส่งเสียงดังและ/หรือสั่นแรงมากกว่าปกติ	มีชิ้นส่วนขรุขระเสียหาย ซึ่งอาจเป็นเพราะคุณทำอุปกรณ์ตก	นำเครื่องไปพบกับตัวแทนจำหน่ายของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองโดย Philips เพื่อตรวจสอบหรือซ่อมแซม
	หากเครื่องถูกใช้งานเพื่อการประกอบอาชีพ อาจทำให้หมดอายุการใช้งานเร็วยิ่งขึ้น	โปรดอย่าใช้เครื่องนี้ในการประกอบอาชีพ
	หัวเล็มสกปรก	ทำความสะอาดหัวเล็ม (ดูจากบท 'การทำความสะอาด')
ประสิทธิภาพในการเล็มลดลง	คุณใช้เครื่องมือผิดวิธี	ทำตามขั้นตอนในบท 'การใช้งาน'
	หัวเล็มสกปรก	ทำความสะอาดหัวเล็ม (ดูจากบท 'การทำความสะอาด')
	แบตเตอรี่ลดต่ำลง	เปลี่ยนแบตเตอรี่ (ดูจากบท 'การรีไซเคิล')
	คุณใส่หัวสำหรับเล็มไม่ถูกต้อง	ถอดหัวสำหรับเล็มแล้วใส่ใหม่อีกครั้ง (ดูจากบท 'การใช้งาน')
	ผิวหนังของคุณอาจเปื่อยขึ้น	เช็ดผิวของคุณให้แห้งก่อนการใช้งาน เช่น เช็ดด้วยผ้าขนหนูเป็นต้น

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua được sản phẩm Philips mới và chào mừng bạn đến với Philips! Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại **www.philips.com/welcome**.

Philips mang đến cho bạn một cách thức cắt tỉa lông an toàn và nhẹ nhàng, ngay cả ở những vùng da nhạy cảm nhất. Với máy làm sạch lông dành cho nam mới này, bạn có thể cắt tỉa thoải mái sát với, da cho cảm giác sạch sẽ và tự tin trong mọi sự kiện.

Mô tả chung (Hình 1)

- 1 Đầu cắt tỉa
- 2 Vị trí khóa đầu cắt tỉa
- 3 Trượt bật/tắt (on/off)
- 4 Vị trí mở khóa nắp ngăn chứa pin
- 5 Khe dây đeo khi tắm
- 6 Dây đeo khi tắm
- 7 Lược tỉa 3mm
- 8 Bộ phận bảo vệ da 0,5mm
- 9 Bàn chải làm sạch
- 10 Pin kiềm AA

Quan trọng

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng thiết bị và cất giữ để tiện tham khảo sau này.

Cảnh báo

- Thiết bị này không dành cho người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị suy giảm năng lực về thể chất, giác quan hoặc tâm thần, hay người thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được giám sát hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị bởi người có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho họ.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.

Chú ý

- Luôn kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng. Không sử dụng thiết bị nếu bất kỳ bộ phận nào bị hư hỏng hoặc vỡ, vì như vậy có thể gây chấn thương.
- Chỉ sử dụng thiết bị này với các vùng trên cơ thể nằm dưới cổ. Không dùng thiết bị với vùng da mặt và đầu.
- Không sử dụng thiết bị khi không có bộ phận bảo vệ da 0,5 mm hoặc lược tỉa 3 mm.
- Chúng tôi khuyên bạn trước tiên nên sử dụng lược tỉa 3 mm để cắt tỉa phần lông dài hơn sau đó dùng bộ phận bảo vệ da 0,5 mm, bộ phận này chỉ dành để cắt tỉa những sợi lông ngắn hơn.
- Nếu thiết bị chịu sự thay đổi lớn về nhiệt độ, áp suất hoặc độ ẩm, hãy để thiết bị thích nghi trong khoảng 30 phút trước khi sử dụng.
- Để đảm bảo vệ sinh, thiết bị chỉ nên được sử dụng bởi một người.
- Nên thận trọng với nước nóng khi bạn lau rửa các phụ kiện. Luôn kiểm tra xem nước có quá nóng không để tránh làm bỏng tay bạn.
- Không sử dụng khí nén, miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất lỏng mạnh như xăng hay axeton để lau chùi thiết bị.
- Chỉ sử dụng một pin R6 AA 1,5V không sạc được cho thiết bị.



- Sử dụng và bảo quản thiết bị này ở nhiệt độ 15°C đến 35°C.
- Không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- Tháo pin khỏi thiết bị nếu không sử dụng trong thời gian dài.


Tuân thủ các tiêu chuẩn

- Thiết bị này có khả năng chống thấm nước và tuân thủ các quy định về an toàn của quốc tế. Thiết bị thích hợp với việc sử dụng khi tắm và rửa dưới vòi nước.
- Thiết bị Philips này tuân thủ tất cả các tiêu chuẩn và quy định hiện hành liên quan đến mức phơi nhiễm điện từ trường.
- Thiết bị này tuân thủ các quy định an toàn IEC được quốc tế công nhận và có thể rửa an toàn dưới vòi nước.




Chuẩn bị sử dụng máy


Lắp pin



- 1** Để tháo nắp ngăn chứa pin, hãy xoay nắp theo chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp nằm ở vị trí mở khóa.




- 2** Kéo nắp ngăn chứa pin ra khỏi tay cầm.




- 3** Lắp pin vào ngăn chứa pin.

Đảm bảo các cực + và - của pin lắp đúng hướng.

Lưu ý: Thiết bị chỉ sử dụng một pin R6 AA 1,5 vôn (đi kèm). Nên dùng pin kiểm của Philips. Một pin kiểm AA mới có thời gian hoạt động lên tới 90 phút.



4 Trượt nắp ngăn chứa pin trở lại tay cầm.




5 Xoay nắp ngăn chứa pin ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi nắp nằm ở vị trí khóa.

Để tránh các hư hại do pin bị chảy:

- không để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.
- không để thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao hơn 35°C.
- tháo pin nếu bạn không sử dụng thiết bị trong vòng một tháng trở lên.
- không để pin hết điện trong thiết bị.

Sử dụng thiết bị




Hãy dành thời gian khi bắt đầu cắt tỉa lông lần đầu tại các vùng nhạy cảm. Bạn phải tập sử dụng thiết bị này. Da của bạn cũng cần chút thời gian để thích nghi với việc này. Không sử dụng thiết bị này để tỉa râu tóc trên mặt hoặc đầu.

Chú ý: Không sử dụng thiết bị khi không có bộ phận bảo vệ da 0,5 mm hoặc lược tỉa 3 mm.

Tông đơ


Thiết bị đi kèm hai lược tỉa, cho phép bạn cắt lông đến 2 độ dài khác nhau. Hãy bắt đầu bằng lược tỉa 3mm để tập sử dụng thiết bị này.

Lược	Độ dài lông sau khi tỉa
Bộ phận bảo vệ da 0,5mm	0,5mm/0,02 inch
Lược tỉa 3mm	3mm/0,11 inch




1 Lắp lược tỉa vào đúng vị trí. Đảm bảo là chỉ báo trên lược được canh thẳng với chỉ báo trên đầu cắt tỉa.

- Đặt thiết bị theo góc 45° lên da.




- 2** Đẩy thanh trượt tắt/mở (on/off) lên trên để bật máy cạo râu.
 Khi bạn cắt tỉa vùng lông rậm, hãy di chuyển chậm và có kiểm soát tốt.



- 3** Luôn di chuyển thiết bị ngược hướng mọc của lông.
Lưu ý: Bảo đảm phân phẳng của lược tỉa luôn tiếp xúc hoàn toàn với da.
Lưu ý: Không ấn quá nhiều lực.

Mẹo cắt tỉa




- Nếu lông dài hơn 20mm, bạn có thể cắt tỉa chúng đến độ dài 3mm trước, để việc cắt tỉa dễ dàng hơn.
- Thiết bị hoạt động tốt nhất dưới điều kiện khô ráo. Hãy dùng khăn để lau khô vùng da của bạn khi sử dụng trên những vùng da hay bị ẩm ướt, chẳng hạn như vùng da dưới cánh tay.
- Kéo căng da ở những vùng nhạy cảm chẳng hạn như vùng ngực và vùng kín.


Vệ sinh

Lau chùi sạch thiết bị sau mỗi lần sử dụng.


Không sử dụng khí nén, miếng tẩy rửa, chất tẩy rửa có tính ăn mòn hoặc những chất lỏng mạnh như xăng hay axeton để lau chùi thiết bị.




- 1** Đẩy thanh trượt bật/tắt (on/off) xuống dưới để tắt máy.
2 Tháo lược tỉa 3mm hoặc bộ phận bảo vệ 0,5mm ra nếu như phụ kiện này vẫn còn được gắn.



- 3** Dùng bàn chải làm sạch được cung cấp để làm sạch lược tỉa 3mm hoặc bộ phận bảo vệ da 0,5mm.



- 4** Dùng bàn chải làm sạch được cung cấp để làm sạch mặt trong của đầu cắt tỉa.



- 5** Rửa sạch lược tỉa 3mm hoặc bộ phận bảo vệ da 0,5mm dưới vòi nước.



- 6** Rửa sạch mặt trong của đầu cắt tỉa dưới vòi nước.

- 7** Cần thận lắc hết nước còn thừa và để cho phụ kiện khô.

Tái chế

Không vứt thiết bị cùng với chất thải gia đình thông thường khi chấm dứt sử dụng thiết bị. Hãy đem thiết bị đến điểm thu gom chính thức để tái chế. Làm như vậy, bạn sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Tháo pin dùng một lần

Để tháo pin dùng một lần, hãy xem chương 'Chuẩn bị sử dụng máy'.

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thông tin, vui lòng truy cập www.philips.com/support hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.

Cách khắc phục sự cố

Chương này tóm tắt các sự cố thường gặp nhất với thiết bị. Nếu bạn không thể giải quyết được sự cố sau khi tham khảo thông tin dưới đây, vui lòng truy cập **www.philips.com/support** để xem danh sách các câu hỏi thường gặp hoặc liên hệ với Trung tâm Chăm sóc Khách hàng tại quốc gia bạn.

Sự cố	Nguyên nhân	Giải pháp
Thiết bị không hoạt động.	Hết pin.	Hãy thay pin.
Thiết bị phát nhiều tiếng ồn hơn và/hoặc rung mạnh hơn bình thường.	Một hoặc nhiều bộ phận bị vỡ, có lẽ bạn đã đánh rơi thiết bị.	Đem thiết bị đến đại lý hoặc trung tâm dịch vụ ủy quyền của Philips để kiểm tra hoặc sửa chữa.
	Nếu thiết bị được sử dụng cho dịch vụ chuyên nghiệp, tuổi thọ của thiết bị sẽ kết thúc sớm hơn	Không sử dụng thiết bị cho dịch vụ chuyên nghiệp.
Hiệu suất cắt tỉa giảm sút	Đầu cắt tỉa bị bẩn.	Làm sạch đầu cắt tỉa (xem chương 'Vệ sinh').
	Bạn sử dụng thiết bị không đúng cách.	Thực hiện theo các hướng dẫn trong chương 'Sử dụng thiết bị'.
	Đầu cắt tỉa bị bẩn.	Làm sạch đầu cắt tỉa (xem chương 'Vệ sinh').
	Pin đang yếu.	Thay pin (xem chương 'Tái chế').
	Bạn lắp lược tỉa không đúng cách.	Tháo lược tỉa ra và gắn nó lại (xem chương 'Sử dụng thiết bị').
	Da của bạn có thể bị ẩm.	Dùng khăn lau khô da trước khi sử dụng.

簡介

恭喜您購買本產品並歡迎加入飛利浦！請於 www.philips.com/welcome 註冊您的產品，以善用飛利浦提供的支援。

飛利浦提供您安全且溫和的方式來修剪體毛，即使是最敏感的部位也能得心應手。使用這款全新的體毛刀，您可以舒適地進行貼身修整，讓您在各種場合都能感到潔淨與自信。

一般說明 (圖 1)

- 1 修整刀頭
- 2 修整刀頭的鎖定位置
- 3 On/Off 滑動開關
- 4 電池槽蓋的解除鎖定位置
- 5 淋浴帶插槽
- 6 淋浴帶
- 7 3 公釐修整梳
- 8 0.5 公釐肌膚防護系統
- 9 清潔刷
- 10 AA 鹼性電池

重要事項

在使用本產品前，請先仔細閱讀本使用手冊，並保留使用手冊以供日後參考。

警示

- 本產品不適合供下列人士 (包括小孩) 使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 請勿讓孩童使用本產品或將本產品當成玩具。

警告

- 使用產品前請務必仔細檢查，任何零件若發生損壞或破裂時，請停止使用以免受傷。
- 本產品僅供用於頸線以下的身體部位。請勿將本產品用於頭部與臉部。
- 使用本產品時，請務必裝上 0.5 公釐肌膚防護系統或 3 公釐修整梳。
- 我們強烈建議您，先使用 3 公釐修整梳修剪較長的毛髮，然後再使用 0.5 公釐肌膚防護系統修剪較短的毛髮。
- 若產品面臨溫度、壓力或濕度的顯著變化時，使用前，請先讓產品適應環境 30 分鐘。
- 基於衛生的理由，請勿多人共用本產品。
- 使用熱水清潔配件時請務必小心。請隨時檢查熱水是否太燙，以避免手部燙傷。
- 絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。
- 請只使用一顆非充電式 1.5V R6 AA 電池操作本產品。
- 請於 15° C 到 35° C 間使用並存放本產品。
- 請勿將本產品直接曝曬在陽光下。
- 如果您長時間不使用本產品，請取出本產品的電池。

符合標準

- 本產品採防水設計，並符合國際認可的安全規定，因此可於泡澡或淋浴時使用，也可直接在水龍頭下沖洗。
- 本飛利浦產品符合所有電磁波暴露的相關適用標準和法規。

- 本產品符合國際公認的 IEC 安全規範，可以直接在水龍頭之下以自來水安全清洗。

使用前準備


裝入電池

- 1** 若要取下電池槽蓋，請以順時針方向旋轉至其解除鎖定位置。


- 2** 將電池槽蓋從握柄上拉起。

- 3** 將電池裝入電池槽內。
請確定電池的正 (+) 負 (-) 極放置無誤。

注意：本產品使用一顆 R6 AA 1.5 伏特電池 (隨附)；建議使用飛利浦鹼性電池。一顆新的 AA 鹼性電池使用時間長達 90 分鐘。



4 將電池槽蓋推回握柄上的原位。




5 將電池槽蓋以逆時針方向旋轉至其鎖定位置。

為避免電池漏電造成損壞：

- 請勿將本產品直接曝曬在陽光下。
- 請勿將本產品暴露於超過攝氏 35° C 的高溫。
- 如果將有一個月以上的時間不使用本產品，請將電池取出。
- 請勿將電力用盡的電池留在本產品中。

使用本產品



剛開始修剪敏感部位毛髮時，請勿操之過急。您得練習如何使用本產品，而您的皮膚也需要一點時間適應刮除毛髮的過程。請勿使用本產品修剪臉部毛髮或頭髮。

警告： 使用本產品時，請務必裝上 0.5 公釐肌膚防護系統或 3 公釐修整梳。

修剪

本產品隨附兩種修整梳，可將毛髮剪成 2 種不同的長度。剛開始可先用 3 公釐修整梳練習如何使用本產品。

梳具


毛髮修剪後長度

0.5 公釐肌膚防護系統

0.5 公釐/0.02 英吋


3 公釐修整梳

3 公釐/0.11 英吋




1 將修整梳卡入定位。請確認梳具上的記號與修整刀頭上的記號對齊。

- 將本產品呈 45° 放在皮膚上。



2 將 On/Off 滑動開關往上推，即可開啟產品電源。
當您修剪濃密的毛時，請放慢動作，並小心控制。




3 將本產品逆著毛的方向移動。

注意：請確保修剪梳的平坦部份始終完全接觸皮膚。

注意：請勿過度施力。

修剪小秘訣




- 如果毛髮長度超過 20 公釐，您可以先將其修剪至 3 公釐以讓修剪進行地更順利。
- 本產品在乾燥狀態下的修剪效果最佳，因此若要用於潮溼部位 (例如腋下)，請先用毛巾等物將身體擦乾。
- 拉緊敏感部位的皮膚，例如胸部和陰囊。

清潔


每次使用後均需清潔本產品。

絕對不可使用壓縮空氣、鋼絲絨、磨蝕性的清潔劑或侵蝕性的液體 (例如汽油或丙酮) 清潔本產品。




1 將 On/Off 滑動開關往下推，即可關閉產品電源。


2 如果仍然裝著 3 公釐修整梳或 0.5 公釐肌膚防護系統，請將它拆下。



3 使用隨附的清潔刷清潔 3 公釐修整梳或 0.5 公釐肌膚防護系統。



4 使用隨附的清潔刷清潔修整刀頭內側。



5 將 3 公釐修整梳和 0.5 公釐肌膚防護系統放在水龍頭下沖洗。



6 將修整刀頭內側放在水龍頭下沖洗。

7 小心甩乾多餘的水份之後，讓產品乾燥。

回收

本產品使用壽命結束時，請勿與一般家庭廢棄物一併丟棄。
請將本產品送至政府指定的回收站，此舉能為環保盡一份心力。

取出拋棄式電池

若要取出拋棄式電池，請參閱「使用前準備」單元。

保固與支援

如果您需要資訊或支援，請造訪：www.philips.com/support，
或另行參閱全球保證書。

疑難排解		
本單元概述您使用本產品時最常遇到的問題。如果您無法利用以下資訊解決您遇到的問題，請造訪 www.philips.com/support ，上面列有常見問題清單，或聯絡您所在國家/地區的客戶服務中心。		
問題	原因	解決方法
本產品無法運作。	電池電量完全耗盡。	更換電池。
產品發出比平時大聲的噪音，及/或震動幅度比平時強烈。	一個或多個零件損壞，可能是因為您曾摔落本產品。	將本產品送至經銷商或飛利浦授權之服務中心進行檢查或修理。
	如果本產品用於專業用途，則產品壽命將會縮短。	勿將產品用於專業用途。
修剪效能變差	修整刀頭髒污。	清潔修整刀頭 (請參閱「清潔」單元)。
	您使用本產品的方式錯誤。	請依照「使用本產品」單元的說明操作。
	修整刀頭髒污。	清潔修整刀頭 (請參閱「清潔」單元)。
	電池電力不足。	更換電池 (請參閱「回收」單元)。
	您沒有正確地裝上修剪梳。	取下修剪梳並重新裝上 (請參閱「使用本產品」單元)。
	您的皮膚可能有水分。	使用前請先用毛巾等物將身體擦乾。

简介

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。使用飞利浦产品可以安全、轻柔地修剪毛发，即使是最敏感的部位。使用这款全新美体护理器，可以舒适地贴肤修剪，不论出席什么场合，均带给您干净自信的感觉。

基本说明 (图 1)

- 1 修剪刀头
- 2 修剪刀头锁定位置
- 3 开/关滑钮
- 4 电池仓盖解锁位置
- 5 淋浴带槽
- 6 淋浴带
- 7 3 毫米修剪梳
- 8 0.5 毫米皮肤保护器
- 9 清洁刷
- 10 AA 碱性电池

注意事项


使用本产品之前，请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管以备日后参考。

警告

- 产品不建议由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 请照看好儿童，本产品不能用于玩耍。

警告

- 使用前，请务必检查产品。一旦产品的任何部件损坏或损毁，请勿再使用产品，否则可能对人体造成伤害。
- 只能将本产品用于颈部以下的身体部位。请勿将产品用于头部和面部。
- 请勿在没有 0.5 毫米皮肤保护器或 3 毫米修剪梳的情况下使用本产品。
- 强烈建议您先使用 3 毫米修剪梳修剪较长的毛发，然后再使用 0.5 毫米皮肤保护器进行修剪（其专用于修剪较短的毛发）。
- 如果产品的使用温度、气压或湿度方面改变较大，应在使用之前让产品适应 30 分钟。
- 出于卫生的目的，本产品只能供一个人使用。
- 清洁附件时要小心使用热水。切记先检查水温是否太高，以防手被烫伤。
- 切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。
- 仅使用 1 节 1.5 伏 R6 AA 一次性电池运行本产品。
- 必须在 15 摄氏度至 35 摄氏度之间的温度下使用和存放本产品。
- 切勿将产品直接曝曬于阳光下。
- 如果在一段时期内不使用本产品，请从产品中取出电池。



符合标准


- 本产品采用防水设计，符合国际认可的安全标准。它可在沐浴或淋浴时使用，并可在水龙头下清洗。
- 本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。




- 本产品符合国际认可的 IEC 安全标准，可放心在自来水龙头下清洗。

使用准备


安装电池



- 1** 如要卸下电池仓盖，请将其顺时针转至解锁位置。




- 2** 将电池仓盖抽离手柄。




- 3** 将电池放入电池仓中。
确保电池的 + 和 - 极方向正确。

注意： 本产品使用一节 R6 AA 1.5 伏电池（随附）。请优先使用飞利浦碱性电池。一节新的 AA 碱性电池可工作长达 90 分钟。



4 将电池仓盖滑回手柄。




5 将电池仓盖逆时针转至锁定位置。

为了防止因电池漏液而引起的损坏:

- 切勿将产品直接曝晒于阳光下。
- 切勿将产品暴露在温度高于 35 摄氏度的环境中。
- 如果您超过一个月不使用本产品，请卸掉电池。
- 切勿将电量耗尽的电池留在本产品中。

使用本产品




首次修剪敏感部位时切勿操之过急。您须进行练习以熟悉产品。而且您的皮肤也需要一些时间来适应整个修剪过程。请勿使用本产品修剪面部毛发或头发。

警告：请勿在没有 0.5 毫米皮肤保护器或 3 毫米修剪梳的情况下使用本产品。

修发


本产品配有两个修剪梳，可将毛发剪成 2 种不同的长度。先使用 3 毫米修剪梳，以熟悉本产品的操作。

梳齿	修理后的毛发长度
0.5 毫米皮肤保护器	0.5 毫米/0.02 英寸
3 毫米修剪梳	3 毫米/0.11 英寸




1 将修剪梳卡入到位。确保修剪梳上的指示与修剪刀头上的指示相对齐。

- 将产品以 45° 角置于皮肤上。




- 2** 向上推动开/关按钮以接通产品电源。
修剪浓密毛发时，确保缓慢移动并控制好动作。



- 3** 逆着毛发生长的方向移动本产品。
注意：确保修剪梳的扁平部分与皮肤保持完全接触。
注意：不要太过用力。


修剪提示




- 如果毛发长于 20 毫米，则可先将其剪至 3 毫米长，以使修剪更轻松。
- 本产品干燥条件下使用效果最佳。在腋下等湿润部位使用时，请先用毛巾将皮肤擦干。
- 拉紧敏感部位的皮肤，如胸部和阴囊。

清洁


每次使用后都应立即清洁产品。
切勿使用压缩气体、钢丝绒、研磨性清洁剂或腐蚀性液体（例如汽油或丙酮）来清洁产品。




- 1** 向下推动开/关按钮以关闭产品。
2 卸下 3 毫米修剪梳或 0.5 毫米皮肤保护器（如果仍装在产品上）。



3 使用随附的清洁刷清洁 3 毫米修剪梳或 0.5 毫米皮肤保护器。



4 使用随附的清洁刷清洁修剪刀头内侧。



5 在水龙头下冲洗 3 毫米修剪梳和 0.5 毫米皮肤保护器。



6 在水龙头下冲洗修剪刀头内侧。

7 小心地甩掉多余的水份并让其干燥。

回收

弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾扔在一起，应将其交给指定的回收中心，这样做有利于环保。

卸下电量耗尽的电池

如要卸下电量耗尽的电池，请参阅“使用准备”一章。


保修和支持

如需信息或支持，请访问 www.philips.com/support 或阅读单独的全球保修卡。


故障种类和处理方法		
	本章归纳了使用本产品时最常见的一些问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。	
问题	原因	解决方法
产品不能工作。	电池已耗尽。	更换电池。
产品比平时发出更大的噪音和/或振动更强烈。	一个或多个部件损坏，可能是因为跌落了产品。	请将本产品送往经销商处或授权的飞利浦服务中心进行检修或维修。
	如果本产品用于专业用途，将会更易达到使用寿命极限。	切勿将产品用于专业用途。
修剪效果不理想	修剪刀头脏了。	清洁修剪刀头（请参阅“清洁”一章）。
	产品使用方式不当。	按照“使用产品”一章中的说明进行操作。
	修剪刀头脏了。	清洁修剪刀头（请参阅“清洁”一章）。
	电池电量不足。	更换电池（请参阅“回收”一章）。
	您未正确安装修剪梳。	卸下修剪梳，重新安装（请参阅“使用产品”一章）。
	皮肤可能很湿。	使用前，请先用毛巾将皮肤擦干。

مشکل	علت	راه حل
دستگاه بیش از حد معمول سرو صدا تولید کرده یا بیش از حد می لرزد.	یک یا چند بخش شاید بخاطر سقوط دستگاه خراب شده باشد.	دستگاه را برای آزمایش یا تعمیر نزد نمایندگی Philips یا مرکز خدمات مجاز Philips ببرید.
	اگر بصورت حرفه ای استفاده شود ممکن است طول عمر کمتری داشته باشد.	از دستگاه بطور حرفه ای استفاده نکنید.
	سر مرتب کردن کثیف است.	سر مرتب کردن را تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن مراجعه کنید").
عملکرد کوتاه کردن کاهشی پیدا کرده است.	شما از دستگاه به روش نادرست استفاده می کنید.	دستورالعمل های فصل "استفاده از دستگاه" را دنبال کنید.
	سر مرتب کردن کثیف است.	سر مرتب کردن را تمیز کنید (به فصل "تمیز کردن مراجعه کنید").
	باتری ضعیف کار می کنند.	باتری را تعویض کنید (به فصل "شارژ" مراجعه کنید).
	شانه مرتب کردن را به طرز صحیح به دستگاه وصل نکرده اید.	شانه مرتب کردن را جدا کرده و آن را مجددا وصل کنید (به فصل "استفاده از دستگاه" مراجعه کنید).
	پوست شما ممکن است مرطوب باشد.	پوست خود را قبل از استفاده خشک کنید، مثلا با یک حوله.

۴ از نشانه تمیز کردن ارائه شده برای تمیز کردن داخل سر مرتب کردن استفاده کنید.



۵ نشانه مرتب کردن ۳ میلی مترو حفاظت کننده پوست ۵ میلی مترا زیر آب بگیرید.



۶ داخل سر مرتب کردن را زیر شیر آب بگیرید.
۷ با دقت آب اضافه را بگیرید و بگذارید خشک شود.



بازیابی

دستگاه را مانند سایر زباله های خانگی دور نریزید، و آن را در مرحله های تعیین شده دور بریزید. با انجام این کار شما به حفظ محیط زیست کمک می کنید.

جدا کردن باتری های یک بار مصرف

برای جدا کردن باتری های یک بار مصرف به فصل "آماده کردن دستگاه برای استفاده" مراجعه کنید.

ضمانت و پشتیبانی

اگر به اطلاعات یا پشتیبانی نیاز دارید لطفاً به سایت اینترنتی www.philips.com/support مراجعه کنید یا برگه جداگانه ضمانت جهانی را مطالعه کنید.

عیب یابی

این فصل مشکلات معمول که هنگام استفاده از دستگاه با آن مواجه می شوید را بطور خلاصه تشریح می کند. اگر نتوانستید با اطلاعات زیر مشکل را حل کنید برای مشاهده لیست سوالات معمول به نشانی www.philips.com/support مراجعه کنید یا با مرکز مراقبت از مشتری در کشور خود تماس بگیرید.


مشکل

علت

راه حل

دستگاه کار نمی کند. باتری خالی می باشد. باتری را تعویض کنید.


۲ سوئیچ کشویی روشن/خاموش را برای روشن کردن دستگاه به سمت بالا فشار دهید. هنگامی که موی پرتراکم را کوتاه می کنید، حرکات را آرام و کنترل شده انجام دهید.



۳ دستگاه را در جهت مخالف رشد مو حرکت دهید.


توجه: مطمئن شوید که بخش صاف شانه مرتب کردن همیشه در تماس کامل با پوست قرار دارد.

توجه: فشار بیش از حد وارد نکنید.



نکاتی در مورد اصلاح

- اگر موها بلندتر از ۲۰ میلی متر باشند، اول آنها را تا طول ۳ میلی متر کوتاه کنید تا اصلاح مو آسانتر شود.
- دستگاه در وضعیتی خشک بهتر کار می کند. پوست خود را هنگامی که دستگاه را روی مناطق مرطوب استفاده می کنید مانند زیر بغلها، خشک کنید مثلاً با یک حوله.
- پوست مناطق حساس مانند قفسه سینه و کیسه بیضه ها را یکشاید.




تمیز کردن

همیشه دستگاه را بعد از استفاده تمیز کنید.


هرگز از هوای فشرده، صفحات بساینده، مواد پاک کننده بساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.

۱ کشویی روشن/خاموش را به طرف پایین فشار دهید تا دستگاه را خاموش کنید.





۲ شانه اصلاح ۳ میلی متر یا حفاظت کننده پوست ۵ میلی متر را در صورتی که هنوز وصل است بردارید.

۳ از شانه تمیز کردن ارائه شده برای تمیز کردن شانه مرتب کردن ۳ میلی متر یا حفاظت کننده پوست ۵ میلی متر استفاده کنید.



۴ قاب محفظه باتری را مجدداً روی دسته جا بزنید.



۵ قاب محفظه باتری را در جهت مخالف حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا در وضعیت قفل قرار بگیرد.

برای جلوگیری از صدمات ناشی از نشست باتریها موارد زیر را انجام دهید:


- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- دستگاه را درجه حرارت بالاتر از ۳۵ درجه سانتی گراد قرار ندهید.
- اگر نمی خواهید از دستگاه برای بیش از یک هفته استفاده کنید، باتری را از آن خارج کنید.
- باتری خالی را در دستگاه قرار ندهید.

استفاده از دستگاه

هنگامی که برای اولین بار مناطق حساس را مرتب می کنید، عجله نکنید. برای کار با دستگاه نیاز به تمرین دارید. پوست شما برای عادت کردن به این کار نیاز به زمان دارد.

از این دستگاه برای اصلاح موهایی صورت یا موی سر استفاده نکنید!

احتیاط: از دستگاه بدون حفاظت کننده پوست ۰،۵ میلی متر یا شانه مرتب کردن ۳ میلی متر استفاده نکنید.



مرتب کردن

این دستگاه با دو شانه اصلاح ارائه می شود که به شما امکان می دهد موی خود را در ۲ طول مختلف کوتاه کنید. کار را با شانه ۲ میلی متر شروع کرده تا کار با این دستگاه را تمرین کرده و به آن عادت کنید.

طول مو بعد از مرتب کردن

۰،۵ میلی متر/۰،۲ میلی متر

۲ میلی متر/۰،۱۱ اینچ


شانه

حفاظت کننده پوست ۰،۵ میلی متر

شانه مرتب کردن ۳ میلی متر

۱ فیلتر را در جای خود جا بزنید. مطمئن شوید که علائم روی شانه با نشانه روی سر مرتب کردن در یک امتداد قرار دهید.

- دستگاه را با زاویه ۴۵ درجه روی پوست قرار دهید.



تطابق با استانداردها

- این دستگاه ضد آب بوده و با توجه به قوانین ایمنی بین المللی ایمنی تایید شده است. این دستگاه جهت استفاده در حمام یا زیردوش و تمیز کردن زیر شیر آب مناسب می باشد.
- این دستگاه Philips با کلیه استانداردها و مقررات مربوط به تشعشعات میدانهای الکترومغناطیسی مطابقت دارد.




- این دستگاه با مقررات بین المللی ایمنی IEC تایید شده مطابقت دارد و می توان آن را با ایمنی کامل در حمام یا زیردوش استفاده کرد.




آماده ساختن دستگاه برای استفاده

قرار دادن باتریها

- ۱ برای جدا کردن قاب بخش باتری، آن را در جهت حرکت عقربه های ساعت بگردانید تا در وضعیت باز شده قرار بگیرد.




- ۲ قاب بخش باتری را از دسته جدا کنید.



- ۳ باتری را در محفظه باتری قرار دهید.

مطمئن شوید که قطبهای + و - باتریها در جهت صحیح قرار گرفته اند.

توجه: دستگاه با یک باتری R6 AA 1.5 ولتی کار می کند (ارائه شده است). ترجیحا از باتریهای آلکالاین Philips استفاده کنید. یک باتری آلکالاین جدید AA می تواند به مدت ۹۰ ساعت کار دهد.



بخاطر این خرید به شما تبریک می گوئیم و به Philips خوش آمدید! برای استفاده کامل از پشتیبانی ارائه شده از جانب Philips دستگاه خود را درنشانی www.philips.com/welcome ثبت کنید.

Philips روش ایمن و راحتی را برای کوتاه کردن موهای بدن شما حتی در حساس ترین مناطق ارائه می کند. با این ماشین اصلاح بدن می توانید موهای بدن خود را کوتاه کرده و احساس تمیزی و اطمینان در هر موقعیتی نمایید.

شرح کلی (شکل ۱)

- 1 سر مرتب کردن
- 2 وضعیت قفل شده سر اصلاح کننده
- 3 سوئیچ کشویی روشن/خاموش
- 4 وضعیت قفل شده قاب محفظه باتری
- 5 شکاف بند حمام
- 6 بند حمام
- 7 سر مرتب کردن ۳ میلی متر
- 8 حفاظت کننده پوست ۰.۵ میلی متر
- 9 برس تمیز کننده
- 10 باتری الکالاین AA

مهم

این راهنمای کاربر را قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوانید و آنها را در محلی برای مراجعات آینده نگهداری کنید.

هشدار


- این دستگاه برای استفاده توسط اشخاصی که دارای مشکلات بدنی، حساس یا ذهنی (کودکان را هم شامل می شود) یا افرادی فاقد تجربه، دانش کافی می باشند طراحی نشده است، مگر این افراد تحت نظارت فردی مسئول قرار داشته یا استفاده از دستگاه را از این افراد فرا گیرند.
- کودکان باید تحت مراقبت قرار داشته باشند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی کنند.

احتیاط

- همیشه قبل از استفاده، دستگاه را بررسی کنید. اگر یکی از قطعات دستگاه صدمه دیده یا شکسته شده است، از دستگاه استفاده نکنید چون ممکن است باعث بروز صدمه شود.
- فقط از این دستگاه روی سطح بدن که زیر خط گردن قرار دارد استفاده کنید. از دستگاه روی سر و بدن استفاده نکنید.
- از دستگاه بدون حفاظت کننده پوست ۰.۵ میلی متری یا شانه مرتب کردن ۳ میلی متر استفاده نکنید.
- قبل از استفاده از حفاظت کننده پوست ۰.۵ میلی متر که برای کوتاه کردن موهای کوتاه طراحی شده است، قویاً توصیه می کنیم موهای بلندتر را ابتدا با شانه مرتب کردن ۳ میلی متر کوتاه کنید.
- در صورتی که دستگاه در معرض تغییرات حرارتی شدید، فشار یا رطوبت قرار گیرد، قبل از استفاده از دستگاه اجازه دهید تا دستگاه خود را با آب و هوا تطبیق دهد.
- بخاطر دلایل بهداشتی، دستگاه فقط باید توسط یک نفر استفاده شود.
- هنگام تمیز کردن لوازم جانبی مراقب آب داغ باشید. برای جلوگیری از سوختن دستپایان، همیشه دقت کنید که آب بیش از حد داغ نباشد.
- هرگز از هوای فشرده، صفحات ساینده، مواد پاک کننده ساینده یا مایعات قوی مانند بنزین یا استن برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید.
- این دستگاه را فقط با یک باتری ۱.۵ ولت AA R۶ غیر قابل شارژ بکار اندازید.
- دستگاه را در درجه حرارتی بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد استفاده و نگهداری کنید.
- دستگاه را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- چنانچه از دستگاه برای مدتی استفاده نمی کنید، باتری را از دستگاه بیرون بیاورید.


المشكلة	السبب	الحل
	ربما لم تتركب مشط التهذيب بصورة صحيحة.	قم بإزالة مشط التهذيب وركبه مرة أخرى (راجع الفصل "استخدام الجهاز").
	ربما يكون الجلد مبللاً.	جفف الجلد بمنشفة مبللة قبل الاستخدام.

٥ اشطف مشط التهذيب بطول ٣ مم أو واقى الجلد بطول ٥ مم تحت ماء الصنبور الجاري.



٦ اشطف رأس التهذيب من الداخل تحت مياه الصنبور.

٧ انفض الماء الزائد بعناية واتركه حتى يجف.



إعادة التدوير

لا تتخلص من الجهاز مع النفايات المنزلية العادية عند نهاية فترة استخدامه، ولكن قم بتسليمه إلى نقطة تجميع رسمية لإعادة تدويره. فأنت تساعد من خلال القيام بهذا الإجراء في الحفاظ على البيئة.

نزع البطاريات ذات الاستخدام الواحد

لنزع البطاريات ذات الاستخدام الواحد (انظر فصل "التجهيز للاستخدام").

الضمان والدعم

إذا كنت بحاجة إلى معلومات أو دعم، يرجى زيارة www.philips.com/support أو الاطلاع على كتيب الضمان العالمي المنفصل.

استكشاف الأعطال وإصلاحها


يأخص هذا الفصل المشكلات العامة التي يمكن أن تواجهك مع استخدام الجهاز. وإذا لم تتمكن من حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، يُرجى زيارة www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة الشائعة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك في بلدك.

المشكلة	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل.	البطارية فارغة.	استبدل البطارية.
يصدر الجهاز ضجيجًا و/أو يهتز بشدة أكثر من المعتاد.	جزء أو أكثر تعرض للكسر بسبب سقوط الجهاز مثلاً.	اعرض الجهاز على الموزع أو على أي مركز صيانة معتمد من قبل Philips للفحص أو الإصلاح.
	قد يؤدي استخدام الجهاز في التطبيقات المهنية إلى انتهاء عمره الافتراضي بوقت سابق.	لا تستخدم الجهاز استخدامًا مهنيًا.
	رأس التهذيب متسخة.	نظف رأس التهذيب (انظر فصل "التنظيف").
أداء التهذيب منخفض	إنك تستخدم الجهاز بالطريقة الخاطئة.	اتبع التعليمات الواردة في فصل "استخدام الجهاز".
	رأس التهذيب متسخة.	نظف رأس التهذيب (انظر فصل "التنظيف").
	انخفاض مستوى شحن البطارية.	استبدل البطارية (انظر فصل "إعادة التدوير").

٣ حرك الجهاز في عكس اتجاه نمو الشعر.


ملاحظة: احرص دائمًا على التلامس الكامل للجزء المسطح من مشط التهذيب مع الجلد.

ملاحظة: لا تستخدم الضغط المفرط.



نصائح التهذيب

- إذا كان الشعر أطول من ٢٠ مم، يمكنك أولاً تهذيبه ليصبح الطول ٣ مم لتيسير التهذيب.
- يعمل الجهاز بشكل أفضل في الظروف الجافة. جفف بشرتك بمنشفة مبللة عند استخدامه على المناطق الرطبة مثل تحت الإبطين.
- شد الجلد في المناطق الحساسة مثل الصدر والخصيتين.




التنظيف

نظف الجهاز بعد كل استخدام.


لا تستخدم الهواء المضغوط أو إسفنجة تنظيف الأطباق أو مواد التنظيف الكاشطة أو أية سوائل قوية مثل المشتقات البترولية أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.

١ ادفع على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل المنزلق لأسفل لإيقاف تشغيل الجهاز.


٢ انزع مشط التهذيب بطول ٣ مم أو واقى الجلد بطول ٥,٥ مم إذا كان لا يزال متصلاً.



٣ استخدم فرشاة التنظيف المرفقة لتنظيف مشط التهذيب بطول ٣ مم أو واقى الجلد بطول ٥,٥ مم.




٤ استخدم فرشاة التنظيف المرفقة لتنظيف رأس التهذيب من الداخل.



٥ أدر غطاء حجيرة البطارية في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى يصل في موضع القفل.

لتجنب التلف الناجم عن التسرب من البطارية:


- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.
- لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة أعلى من ٣٥ ° مئوية.
- انزع البطارية من الجهاز إذا لم تكن تنوي استخدامه لمدة شهر أو أكثر.
- لا تترك أي بطاريات فارغة في الجهاز.



استخدام الجهاز

تمهل عند البدء في تهذيب المناطق الحساسة لأول مرة. عليك باكتساب الخبرة في استخدام الجهاز. تحتاج بشرتك أيضاً إلى بعض الوقت للتأقلم مع الحلاقة بالجهاز. لا تستخدم الجهاز في تهذيب شعر الوجه أو فروة الرأس.

تنبيه: تفادي استخدام الجهاز دون واقي البشرة مقاس ٥، مم أو مشط التهذيب مقاس ٣ مم.



التهذيب

يأتي الجهاز مزوداً بمشطين تهذيب للسماح بقص الشعر بطولين مختلفين. ابدأ باستعمال مشط التهذيب بطول ٣ مم لاكتساب الخبرة في استعمال هذا الجهاز.

طول الشعر بعد التهذيب

٥، مم / ٢،٠ بوصة


٣ مم / ١١،٠ بوصة

مشط

واقى الجلد بطول ٥، مم


مشط التهذيب بطول ٣ مم

- ١ ركب مشط التهذيب. تأكد من ضبط المؤشر على المشط مع المؤشر على رأس التهذيب. ضع الجهاز بزاوية ٤٥ درجة على الجلد.



٢ ادفع الزر المنزلق التشغيل/ إيقاف التشغيل إلى أعلى لتشغيل الجهاز.

عند تهذيب الشعر الكثيف، قم بحركات بطيئة والتحكم فيها بصورة جيدة.




- يتطابق هذا الجهاز من شركة Philips مع جميع المعايير والقوانين السارية فيما يتعلق بالتعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.
- يتطابق الجهاز مع قواعد السلامة IEC المعتمدة دوليًا و يمكن تنظيفه تحت صنوبر الماء.




التجهيز للاستخدام

تركيب البطاريات

١ لفك غطاء حجيرة البطارية، أدركه مع اتجاه عقارب الساعة حتى يكون في موضع الفتح.




٢ انزع غطاء حجيرة البطارية من المقبض.




٣ قم بتركيب البطارية في الحجيرة الخاصة بها. تأكد من وضع الأقطاب الموجبة (+) والسالبة (-) للبطاريات في الاتجاه الصحيح.

ملاحظة: هذا الجهاز يعمل ببطارية AA ١,٥ فولت مقاس R6 (يشملها الجهاز). يفضل استخدام بطاريات Philips القلوية. يصل العمر التشغيلي لبطارية قلوية AA جديدة إلى ٩٠ دقيقة تقريبًا.



٤ حرك غطاء حجيرة البطارية مرة أخرى على المقبض.



مقدمة

هنيئاً لك على شراء هذا المنتج ومرحباً في عالم Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome.
توفر شركة Philips طريقة آمنة ولطيفة لتهديب شعر الجسم حتى في أكثر المناطق حساسية. من خلال هذه الأداة الجديدة لتهديب شعر الجسم يمكنك تهديب الشعر للشعور بالنظافة والثقة مهما كانت المناسبة.

الوصف العام (شكل ١)

- 1 رأس التهذيب
- 2 موضع القفل لرأس التهذيب
- 3 المفتاح المنزلق للتشغيل/إيقاف التشغيل
- 4 موضع الفتح لغطاء حجرة البطارية
- 5 فتحة حزام الدش
- 6 حزام الدش
- 7 مشط التهذيب بطول ٣ مم
- 8 واقي الجلد بطول ٠,٥ مم
- 9 فرشاة التنظيف
- 10 بطارية قلووية AA

هام

يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تحذير

- لم يتم تصميم هذا الجهاز ليستخدمه الأشخاص (يمن فيهم الأطفال) ذوي الإعاقات الحسية أو العقلية أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ما لم يحصلوا على الإشراف والتوجيه فيما يتعلق باستخدام هذا الجهاز من الشخص المسئول عن سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.

تنبيه

- احرص دائماً على فحص الجهاز قبل استخدامه. لا تستخدم الجهاز إذا كان أي جزء من أجزائه تالفاً أو مكسوراً لأن ذلك قد يتسبب في حدوث إصابة.
- يجب استخدام هذا الجهاز فقط على مناطق الجسم أسفل خط العنق. تفادي استخدام الجهاز على الرأس والوجه.
- تفادي استخدام الجهاز دون واقي البشرة مقاس ٠,٥ مم أو مشط التهذيب مقاس ٣ مم.
- إننا ننصح بشدة بتهديب الشعيرات الأطول بمشط التهذيب مقاس ٣ مم أولاً قبل استخدام واقي البشرة مقاس ٠,٥ مم المصمم خصيصاً لتهديب الشعيرات الأقصر.
- في حال تعرض الجهاز إلى تغيير كبير في درجة الحرارة أو الضغط أو الرطوبة، اتركه لمدة ٣٠ دقيقة للتأقلم مع الجو المحيط قبل الاستعمال.
- يجب استخدام الجهاز عن طريق شخص واحد فقط للحفاظ على الصحة العامة.
- احتسب من المياه الساخنة عند تنظيف الملحقات. تأكد دائماً من أن الماء ليس شديداً الساخنة حتى لا تعرض يداك للاحتراق.
- لا تستخدم الهواء المضغوط أو إسفنجية تنظيف الأطباق أو مواد التنظيف الكاشطة أو أية سوائل قوية مثل المشتقات البترولية أو الأسيتون في تنظيف الجهاز.
- لا تتم بتشغيل الجهاز إلا باستخدام بطارية R6 AA واحدة غير قابلة لإعادة الشحن بجهد ١,٥ فولت.
- استخدم الجهاز وخزنه في درجة حرارة بين ١٥ إلى ٣٥ درجة مئوية.
- لا تعرض الجهاز لضوء الشمس المباشر.
- انزع البطارية من الجهاز إذا لم تكن تنوي استخدامه لبعض الوقت.

مطابقة المعايير

- هذا الجهاز مقاوم للماء ومتوافق مع لوائح وقواعد السلامة المعتمدة دولياً. وهو ملائم للاستخدام في الحمام أو تحت الدش وملام للتطهير تحت الصنبور.



